

بسم الله الرحمن الرحيم

بإذن الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 Tibb-e-Nabawi

 Answer Key # 09

 Lesson # 07 (Part-A)

 Total marks: 40

 Sunday 08th October 2017



سوالنمبر ۱- 

پرہیز کی اقسام بیان کریں۔ (۱۰)

جواب :- 

پرہیز دو طرح کے ہوتے ہیں۔

۱- ایسا پرہیز جس سے بیماری پاس نہ پھٹکے۔

۲- ایسا پرہیز جس سے بیماری میں اضافہ نہ ہو بلکہ مرض جس حال میں ہے کم از کم اُسی جگہ رہ جائے۔

سوالنمبر ۲- 

خالی جگہ پُر کریں۔ (۵=۳*۵)

۱-  علاج دراصل دو چیزوں کا نام ہے ایک ----- اور دوسرا -----

♦ پرہیز اور حفظانِ صحت

۲-  ----- کا مطلب ہے 'جسم سے گندے مادوں کو خارج کرنا۔

♦ استقراغ

۳-  ----- کا تیل پکا کر کھانے سے اُسکی غذائیت اور افادیت ختم ہو جاتی ہے۔

♦ زیتون

سوالنمبر ۳- 

صحیح اور غلط لکھیں۔ (۳=۵*۳)

۱- مسلسل تین دن تک فجر کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چوتھے دن اُس کو اُٹھنے کی 

توفیق ہی نہیں ہوتی۔

♦ صحیح

✨ ۲- ٹائیفائڈ کے مریض کیلئے جو کے دلیہ کا پانی نُقصانده ہے۔

♦ غلط

✨ ۳- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے نہ صرف صحت بحال ہوگی بلکہ صحت برقرار بھی رہیگی۔

♦ صحیح

✨ ۴- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔

♦ صحیح

✨ ۵- آشوب چشم میں کھجور کھانا مُفید ہے۔

♦ غلط



🧴 Question no 1-

Perhaiz ki lqsaam bayaan kren. (10)

✨ Answer:-

Perhaiz do tarah ke hotay hein.

- ♦ 1- Aese perhaiz jis se bimaari pas na phatkey.
- ♦ 2- Aesa perhaiz jis se bimaari mein izafa na ho blke marz jis haal mein hai kam az kam usi jagah reh jaye.

🧴 Question no 2-

Khaali jagah pur kren.(5*3=15)

✨ 1- Ilaaj dra'sal do cheezon ka naam hai, aik aur doosra

- ♦ Perhaiz, aur hifzaan sehat

✨ 2- ka matlab hai' jism se ganday maa'don ko kharij kerna.

- ♦ Istifragh

✨3- ka tail paka ker khaney se uski ghaza'iyat aur afaa'diyat khatam ho jati hai.

♦ Zaitun

🧴 Question no 3-

Sahi aur ghalat likhen. (3*5=15)

✨1- Musalsal teen din tak fajar ke waqt sonay waley ke kaan mein shaitaan peshaab ker deta hai aur phir chothay din usko uthnay ki tofeeq hi nahi hoti.

♦ Sahi

✨2- Typhoid ke mareez ke liye "Jo" ke dalya ka paani nuqsan dey hai.

♦ Ghalat

✨3- Rasool (S.A.W.W) ke btaye hue tareeqay per amal kernay se na sirf sehat bahaal hogi blke sehat barqrar bhi rhe gi.

♦ Sahi

✨4- Rasool (S.A.W.W) ne khajur aur injeer mila ker khanay se mana fermaya hai.

♦ Sahi

✨5- Ashub e chasham mein khajur khana mufeed hai.

♦ Ghalat

